

سوال

بھوک اور نیند کے وقت نماز پڑھنے کا حکم

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

اگر بھوک لگی ہو یا نیند آ رہی ہو اور نماز کا بھی وقت ہو گیا ہو تو کیا پہلے نماز پڑھنی چاہیے یا کھانی کر نماز پڑھیں یا پہلے سوئیں پھر اٹھ کر نماز پڑھیں۔؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد!

- ۱۔ اگر بھوک یا نیند ایسی ہے کہ آپ کے لیے نماز میں اللہ کی طرف متوجہ ہونا ممکن نہیں ہے اور آپ کی نماز میں آپ کی ساری توجہ کھانے اور نیند کی طرف ہوگی اور نیند کا اس قدر غلبہ ہو کہ آپ کو معلوم بھی نہ ہو کہ نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں تو پہلے اپنی بھوک ختم کر لیں اور نیند پوری کر لیں اور پھر نماز ادا کریں لیکن
 - ۲۔ اور اگر بھوک اور نیند شدید نہ ہو یعنی ایسی ہو کہ اس سے نماز کی توجہ اور شتوح و حضور پر کوئی اثر نہیں ہوگا تو پھر نماز پہلے ادا کرنی چاہیے۔
 - ۳۔ اسی طرح اگر بھوک اور نیند مکمل کرنے سے نماز کے تقنا ہونے کا اندیشہ ہو تو بھی پہلے نماز ادا کرنی چاہیے۔
- نہ بازر حمد اللہ کا فتویٰ ہے کہ بھوک کی حالت میں پہلے کھانا تناول کر لے اور پھر نماز ادا کرے لیکن اسے عادت نہیں بنالینا چاہیے :

حدیثاً عنہم والیہم بالصواب

محدث فتویٰ

فتویٰ کیٹی